



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release
September 30, 2023

Dr Shamshad consultation with financial markets to bring investment through Private Funds

KARACHI, September 30 — Dr. Shamshad Akhtar, the honorable Caretaker Federal Minister for Finance, Revenue, Economic Affairs chaired a meeting with the Chairman of the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP), bankers and heads of development finance stated that capital market reforms are critical component of the CareTaker Government's economic revival program. The initiatives are aimed to promote growth and development by harnessing the potential of capital market institutions to diversify sources of financing and exploiting innovative financing modalities.

Bankers and Development Finance Institutions (DFIs) agreed on the need for establishment of private equity and venture funds to serve as a catalyst for economic revival. Chairman SECP reinforced SECP's commitment and for creating an enabling regulatory environment. The Finance Minister appreciated SECP's active engagement and encouraged banks and DFIs to set the stage for this collaborative effort and fast track the setting up of the private funds to support industrial development.

Habib Bank Limited, representing a consortium of banks, proposed the establishment of a Climate Resilience (CR) Fund under the SECP Private Fund Regulations, 2015. The DFIs tabled the proposal for setting up a similar fund backed by DFIs. Whereas, Bank AL Falah presented a promising proposal to create a Special Purpose Vehicle (SPV) under the Asset Backed Securitization Regulations, 2022 to securitize rupee denominated debt to dollar denomination.

ڈاکٹر شمشاد کی پرائیویٹ فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری لانے کے لئے فنانسل مارکیٹ کے ساتھ مشاورت

کراچی (ستمبر 30) وفاقی وزیر برائے خزانہ، محصولات، اور اقتصادی امور، ڈاکٹر شمشاد اختر نے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین عاکف سعید کے ہمراہ بنکوں، ڈویلپمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشنز اور کیپٹل مارکیٹ کے نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ کی اصلاحات نگران حکومت کے معاشی ایجنڈا کی ترجیح میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ میں شامل مالیاتی اداروں کے ذریعے گروتھ اور ڈویلپمنٹ کے مقصد کے لئے مختلف ذرائع سے وسائل مہیا کئے جاسکتے ہیں۔

اجلاس میں شامل مالیاتی اداروں اور بنکوں کے نمائندوں نے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز اور ونچر کیپٹل قائم کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ ایس ای سی پی کے زیر اہتمام مالیاتی اداروں کی جانب سے پرائیویٹ فنڈز کے قیام کی تجاویز پر غور کے لئے ہونے والے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اجلاس میں مالیاتی اداروں، کارپوریٹ اداروں اور بنکوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور اپنی اپنی تجاویز پیش کیں۔

اجلاس میں حبیب بینک لمیٹڈ نے بینکوں کے کنسورشیئم کی نمائندگی کرتے ہوئے، ایس ای سی پی کے پرائیویٹ فنڈ ریگولیشنز کے تحت موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں فنڈز کے قیام کی تجویز دی اور۔ جبکہ، بینک الفلاح نے اثاثوں کی حمایت یافتہ سیکورٹائزیشن ریگولیشنز کے تحت ایک اسپیشل پریزو ہیکل بنانے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ روپے کی قدر والے قرض کو ڈالر کی قیمت میں محفوظ بنایا جاسکے۔ اس موقع پر ایس ای سی پی کی کمشنر جناب مجتبیٰ لودھی نے شرکاء کو ایس ای سی پی کے ریگولیشنز اور حال ہی میں کی جانے والی اصلاحات پر بریفنگ دی۔

چیئرمین ایس ای سی پی عاکف سعید نے پرائیویٹ فنڈز کو مؤثر طریقے سے تشکیل دینے کے ریگولیٹری تقاضوں پر روشنی ڈالی اور شرکاء کو یقین دلایا کہ ایس ای سی پی کے ماہرین فنڈز کی پیشہ ورانہ مینجمنٹ، مالیاتی اداروں کے انڈیپنڈنٹ بورڈ کے ذریعے فنڈز کی نگرانی، پرائیویٹ ایکویٹی، اسٹرکچرڈ فنانس، اور گرین انویسٹمنٹ کے حوالے سے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس کے فروغ سے نہ صرف سرمایہ کی کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس سے حکومت اور نجی شعبے دونوں کو اسٹیک ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔

